

سیاست سیاست سیاست



بس سے اترتے ہی سینے بیٹھیل کے پیڑ کے برابر والی سڑک پر چلانا شروع کر دیا، سنا ہے یہاں اس دور کا سب سے بڑا پاگل انسان رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے ایسے پاگل لوگوں سے ملنے کا بہت شوق ہے، کئی پاگل تو مجھ سے پہلے ہی مر گئے تھے اس لئے میں انکی کتابیں پڑھ پڑھ کے پیٹ ہا کا کرتا ہوں، کیا تم بھی اس سے ملنے جا رہے ہو؟ جی ہاں۔۔۔ پھر اسنے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے یہ پاگل انسان پہاڑوں میں چھپ کر کیوں رہتا ہے؟ جی نہیں آپ ہی بتادیں! ارے ایسے پاگل تو حکومتوں کے لئے بہت خطرہ ہوتے ہیں۔۔۔۔۔، اس کی باتیں مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آرہی تھیں۔ اس لئے سینے قلع کلامی کرتے ہوئے پوچھا! مگر جناب آپ ایسے انسان سے کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ اسنے گھری سانس لیتے ہوئے کہا۔۔۔ کیا بتاؤں بھائی جب سے گھنی موچھوں والے شخص کو اخباروں میں دیکھا ہے، تب سے میرے تو زخم ہی ہرے ہو گئے ہیں۔ فوراً بات کاٹتے ہوئے مینے پوچھا آپکا مقصد کیا ہے؟ آپ کس مقصد سے پاگل شخص سے ملنے جا رہے ہیں؟ بھائی سادہ بات کہوں تو مجھے سیاست کی دنیا میں جانے کا شوق ہے۔۔۔ اسکا جواب سنتے ہی میرے تو روگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔۔۔ یہ خطرناک انسان کیسی بے تکلی باتیں کر رہا ہے۔۔۔ جن بھوتوں کی تو دنیا سنی ہے اب یہ کونسی نئی دنیا کی بات کر رہا ہے۔ مگر ایسا کیا ہے اس دنیا میں کہ تم وہاں جانا چاہتے ہو؟ میرے سوال پر اسکے چہرے پر خوشی دیکھنے کی سی تھی وہ چلتے چلتے اپنے پیروں پر کودنے لگا۔۔۔ ارے کیا نہیں ہے وہاں پر وہ پوچھو اسنے

میر اساتھی بچارا پسینہ پونچتے ہوئے کہنے لگا نہیں بابا میں ایسا نہیں ہو

پاگل شخص: غصہ میں آگیا اسکی آنکھیں لال ہو گئیں، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، تم سیاست کی دنیا کبھی نہیں دیکھ سکتے، اگر پھر بھی تمہیں سیاست کی دنیا دیکھنی ہی تو گھوڑے والے بابا کے پاس جاؤ۔۔۔ میرے ساتھی نے بات کائے ہوئے کہا! بابا گیا تھا، گیا تھا بابا وہاں میرے سارے مسئلے حل ہو گئے، مگر مجھے سیاست کی دنیا دیکھنی ہے وہ وہاں سے نظر نہیں آتی۔۔۔

پاگل شخص: چلو ایک عمل بتاتا ہوں، مگر کسی کو بتانا نہیں، تم سے پہلے ایک بندے کو دیا تھا، بڑے بڑے لوگ اس سے ملنے آرہے ہیں، آج کل بہت چمک رہا ہے وہ۔ لیکن بچہ اس عمل کی ایک بندش ہے، یہ پڑھائی خود پر نہیں کر سکتے تمہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کو سامنے بٹھا کر اس پر پڑھائی کرنی پڑے گی۔ اور تیرہ تیر والے دیوتا کو خوش کرنا ہو گا۔ اسکے بعد اسنے ایک کاغذ اسکے ہاتھ میں تھما دیا۔ جا بچہ دیوتا تیرے ساتھ ہو گا۔

مجھے ساری بات سمجھ میں آگئی تھی۔ آخر وہ سب اسکے لئے اتنے مضطرب کیوں ہیں، یہ کیا دھرا اسی پاگل کا ہے، یہ اسی کے بتائے ہوئے عمل کا نتیجہ ہے

Article Link <http://www.mirfatehalishah.com/articles/post.php?id=2122>

Join us on facebook <https://www.facebook.com/mirfatehalishah>

www.mirfatehalishah.com